

عمل ام داؤد کہ یہی اس دن کا خاص عمل ہے جو حاجت بلا رسی، مصیبت کی دوری اور ظالموں کے ظلم سے بچاؤ کیلئے بہت اہم و اثر ہے، شیخ نے مصباح میں اس عمل کی کیفیت یوں لکھی ہے کہ عمل ام داؤد کرنے کیلئے ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ رجب کو روزہ رکھے اور ۱۵ رجب کو زوال کے وقت غسل کرے زوال کے فوراً بعد نماز ظہر و عصر بجالائے کہ رکوع و سجود میں خوف اور عاجزی کا اظہار کرے اس وقت وہ خلوت کی جگہ پر ہو، جہاں وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو اور کوئی شخص اس سے بات بھی نہ کرے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح عمل کرے کہ سومرتبہ سورہ الحمد، سومرتبہ سورہ اخلاص اور دس مرتبہ ایت الکرسی، اسکے بعد یہ سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یسین، سورہ صافات، سورہ حم سجده، سورہ عسق، سورہ حم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق اور اسکے بعد قرآن کی ۱۱ خری سورہ تک مسلسل پڑھے جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے:

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْحَلِيمُ  
 سچا ہے خدا نے بزرگتر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زندہ، نگہدار، صاحب جلال و بزرگی، بڑے رحم والا، مہربان، بردبار اور کرم کرنے والا ہے  
 الْكَرِيمُ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الْبَصِيرُ الْخَبِيرُ، شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ  
 جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے بیباک و خبردار ہے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں  
 إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ  
 اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی جو عدل پر قائم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب صاحب حکمت ہے اور اس کے محترم  
 الْكِرَامِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْمَجْدُ، وَلَكَ الْعِزُّ، وَ  
 رسولوں نے یہی پیغام دیا اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں اے معبود! تیرے لئے ہی حمد ہے تیرے لئے ہی بزرگی ہے تیرے لئے ہی عزت ہے  
 لَكَ الْفَخْرُ، وَلَكَ الْقَهْرُ، وَلَكَ النُّعْمَةُ، وَلَكَ الْعِظَمَةُ، وَلَكَ الرَّحْمَةُ، وَلَكَ الْمَهَابَةُ،  
 تیرے لئے ہی فخر ہے تیرے لئے ہی غلبہ ہے تیرے لئے ہی نعمت ہے تیرے لئے ہی بڑائی ہے تیرے لئے ہی رحمت ہے تو ہی صاحب ہیبت ہے تو ہی  
 وَلَكَ السُّلْطَانُ، وَلَكَ الْبَهَاءُ، وَلَكَ الْاِمْتِنَانُ، وَلَكَ التَّسْبِيحُ، وَلَكَ التَّقْدِيسُ، وَلَكَ التَّهْلِيلُ  
 سلطنت والا ہے تو ہی خوبی والا ہے تو ہی صاحب احسان ہے تیرے لئے ہی تسبیح ہے تیرے لئے ہی پاکیزگی ہے تیرے لئے ہی  
 وَلَكَ التَّكْبِيرُ، وَلَكَ مَا يُرَى، وَلَكَ مَا لَا يُرَى، وَلَكَ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى، وَلَكَ  
 ذکر ہے تیرے لئے ہی بڑائی ہے تیرے لئے ہی ہر دکھائی دینے اور دکھائی نہ دینے والی چیز تیرے لئے ہی ہے جو بلند آسمانوں

مَا تَحْتَ الثَّرَى، وَلَكَ الْأَرْضُونَ السُّفْلَى، وَلَكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، وَلَكَ مَا تَرْضَى بِهِ مِنْ  
 سے اوپر ہے تیرے ہی لئے ہے ہر چیز جو زیر زمین ہے تیرے ہی لئے ہیں نچلی زمینیں تیرے ہی لئے ہے ۱۱ غاڑ اور انجام تیرے ہی  
 الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالنَّعْمَاءِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَائِيلَ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَالْقَوِيِّ عَلَى  
 لئے ہے تیری پسند کی ہوئی تعریف، حمد، شکر اور نعمت اے معبود! جبریلؑ پر رحمت فرما جو تیری وحی کا امین ہے تیرا حکم ماننے میں  
 أَمْرِكَ، وَالْمُطَاعِ فِي سَمَاوَاتِكَ وَمَحَالِّ كَرَامَاتِكَ، الْمُتَحَمِّلِ لِكَلِمَاتِكَ، النَّاصِرِ لِإِنِّيَاتِكَ،  
 قوی ہے اور تیرے ۱۱ سامانوں میں قابل اطاعت ہے تیری نوازشوں کا مرکز اور تیرے کلمات کا حامل ہے تیرے انبیاء کا مددگار ہے اور تیرے دشمنوں  
 الْمُدْمِرِ لِإِعْدَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيكَائِيلَ مَلِكِ رَحْمَتِكَ وَالْمَخْلُوقِ لِرَأْفَتِكَ وَالْمُسْتَعْفِرِ  
 کو ہلاک کرنے والا ہے اے معبود! میکائیلؑ پر رحمت فرما جو تیری رحمت کا فرشتہ ہے اس کا وجود تیری مہربانی کا مظہر ہے وہ تیرے اطاعت گزاروں کا مددگار  
 الْمُعِينِ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِسْرَافِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ الْمُنْتَظَرِ  
 اور ان کیلئے طالب بخشش ہے اے معبود! رحمت فرما اسرافیلؑ پر جو تیرے عرش کو اٹھانے والا اور صور پھونکنے والا کہ تیرے انتظار میں ہیوہ تیرے خوف سے  
 لِأَمْرِكَ الْوَجَلِ الْمُسْفِقِ مِنْ خِيفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى السَّفَرَةِ  
 خائف و ہراساں ہے اے معبود! حاملان عرش پر رحمت فرما جو پاک و پاکیزہ ہیں اور اپنے سفیروں  
 الْكِرَامِ الْبَرَّةِ الطَّيِّبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَةِ الْجَنَانِ، وَخَزَنَةِ  
 پر رحمت فرما جو عزت دار نیک اور پاکیزہ ہیں اور اپنے فرشتوں پر رحمت فرما جو عزت دار کاتب ہیں اور جنت کے فرشتوں پر  
 النَّيْرَانِ، وَمَلِكِ الْمَوْتِ وَالْأَعْوَانِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِيْنَا آدَمَ بَدِيعِ  
 جہنم کے نگہبان فرشتوں پر اور فرشتہ موت اور اس کے مددگاروں پر رحمت فرما اے صاحب جلال و عزت اے معبود! ہمارے باپ  
 فِطْرَتِكَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ بِسُجُودِ مَلَائِكَتِكَ، وَأَبْحَثَهُ جَنَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمَّنَا حَوَاءَ  
 ۱۱ دم پر رحمت نازل فرما جو تیری مخلوق میں نقش اول ہیں جنکو تو نے فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت دی اور اپنی جنت ان کیلئے کھول دی  
 الْمُطَهَّرَةِ مِنَ الرَّجْسِ، الْمُصَفَّاءَةِ مِنَ الدَّنَسِ، الْمُفْضَلَةِ مِنَ الْإِنْسِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحَالِّ الْقُدْسِ  
 اے معبود! ہماری ماں حوا پر رحمت فرما جو ۱۱ لائش سے پاک اور ہر میل کچیل سے صاف و پاکیزہ ہیں وہ انسانوں میں سے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَابِيلَ وَشَيْثٍ وَإِدْرِيسَ وَنُوحَ وَهُودَ وَصَالِحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
 بلند تر اور پاکیزگی کے مہلات میں 1 پھرتی ہیں اے معبود! ہابیل، شیث، ادريس اور نوح، ہود، صالح، ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق،  
 وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالْأَسْبَاطِ وَاللُّوطَ وَشُعَيْبَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَيُوشَعَ وَمِيشَا وَالْحَضِرَ  
 یعقوب اور یوسف پر رحمت فرما اور ان کے اسباط و اولاد پر اور لوط، شعيب، ايوب، موسیٰ و ہارون پر رحمت فرما اور یوشع، ميسا و حضر

وَذِي الْقُرَيْنِ وَيُونُسَ وَ إِيَّاسَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكُفْلِ وَطَالُوتَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَّا وَشَعْيَا  
اور ذوالقرنین پر اور یونس، الیاس، الیسع، ذوالکفل، طالوت اور داؤد و سلیمان پر رحمت فرما  
وَيَحْيَى وَتُورَخَ وَمَتَّى وَإِرْمِيَا وَحَيْفُوقَ وَدَانِيَالَ وَعِزْرِيَّ وَعِيسَى وَشَمْعُونَ وَجَرَجِيَسَ وَالْحَوَارِيَّيْنَ  
اور ذکریا، شعیا، متی، تورخ، ایسی، ارمیا اور حیوٹا پر رحمت فرما اور دانیال، عزیز، عیسیٰ،  
وَ الْاِتْبَاعِ وَخَالِدٍ وَحَنْظَلَةَ وَلُقْمَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ  
شعوا اور جریس نیز ان کے حواریوں اور پیروکاروں پر رحمت فرما اور خالد، حنظلہ اور لقمان پر رحمت فرما اے مجبور! محمد و  
مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ  
محمد پر درود بھیج اور رحمت فرما محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو  
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْاَوْصِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَائِمَّةِ الْهُدٰى.  
نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا، رحمت کی اور برکت نازل کی بے شک تو تعریف والا اور شان والا ہے اے مجبور! وصیوں، نیک بختوں، شہیدوں  
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْاَبْدَالِ وَالْاَوْتَادِ وَالسِّيَاحِ وَالْعَبَادِ وَالْمُخْلِصِيْنَ وَالزُّهَادِ وَاهْلِ الْجَدِّ وَالْاَجْتِهَادِ  
اور ہدایت والے ائمہ پر رحمت فرما اے مجبور! رحمت فرما ویوں اور قلندروں پر اور رحمت فرما سیاحوں، عابدوں، مخلصوں، زاہدوں اور کوشش و اجتہاد کرنے  
وَ اَخْصِصْ مُحَمَّدًا وَاهْلَ بَيْتِهِ بِاَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَاجْزَلِ كَرَامَاتِكَ، وَبَلِّغْ رُوْحَهُ وَجَسَدَهُ مِنِّي  
والوں پر اور حضرت محمد اور ان کے گھرانے کو اپنی بہترین کے ساتھ شخص فرما رحمتوں اور عظیم مہربانیوں سے نواز اور میری طرف سے آنحضرت کے جسم و روح  
تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَزِدْهُ فَضْلًا وَشَرَفًا وَكِرَامًا حَتّٰى تُبَلِّغَهُ اَعْلٰى دَرَجَاتِ اَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ  
کو سلام اور داد پہنچا اور انہیں فضل و شرف اور بزرگی میں بڑھا حتیٰ کہ تو ان کو انبیاء مرسلین میں سے اہل شرف ہستیوں اور  
وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَفْاضِلِ الْمُقَرَّبِيْنَ، اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلٰى مَنْ سَمِيْتُ وَمَنْ لَمْ اُسْمِ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَ  
اپنے بزرگ تر مقربوں کے بلند درجات پر پہنچا دے اے مجبور! ان پر رحمت فرما جن کے نام میں نے لینے اور جن کے  
اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ، وَ اَوْصِلْ صَلَوَاتِيْ اِلَيْهِمْ وَ اِلٰى اَرْوَاحِهِمْ وَاجْعَلْهُمْ اِخْوَانِي  
نام میں نے نہیں لینے جو تیرے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں اور فرمانبرداروں میں سے ہیں میری صلوات ان تک اور ان کی  
فِيكَ وَاعْوَانِيْ عَلٰى دُعَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلَيْكَ وَبِكِرْمِكَ اِلٰى كِرْمِكَ وَ  
روحوں تک پہنچا دے اور اپنی درگاہ میں انہیں میرے بھائی اور دعا میں میرے مددگار بنا دے اے مجبور میں تیرے حضور  
بِجُودِكَ اِلٰى جُودِكَ وَبِرَحْمَتِكَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَبِاهْلِ طَاعَتِكَ اِلَيْكَ وَاسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ  
تیری شفاعت لایا اور تیرے کرم تک، تیری عطا تک، تیری رحمت کو اور تیری رحمت تک تیری رحمت کو اور تیرے فرمانبرداروں کو شفیق بنا رہا ہوں اور اے

بِكُلِّ مَا سَأَلَك بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ شَرِيفَةٍ غَيْرِ مَرْدُودَةٍ وَبِمَا دَعَوَكَ بِهِ مِنْ دَعْوَةٍ مُجَابَةٍ  
 پرو دگار میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو ان میں سے کسی نے بہترین سوال کیا جسے رد نہیں کیا گیا اور جو دعا انہوں نے مانگی جسے قبول کیا گیا رد نہیں کیا گیا  
 غَيْرِ مُخَيَّبَةٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَظِيمُ يَا جَلِيلُ يَا مُنِيلُ يَا جَمِيلُ يَا  
 وہی دعا کرتا ہوں اے اللہ، اے رحمن، اے مہربان، اے بردبار، اے کرم کرنے والے، اے بڑائی والے، اے جلالت والے، اے بخشنے والے، اے زیبا  
 كَفِيلُ يَا وَكِيلُ يَا مُقِيلُ يَا مُجِيرُ يَا خَبِيرُ يَا مُنِيرُ يَا مُبِيرُ يَا مَنِيْعُ يَا مُدِيلُ يَا مُحِيلُ يَا كَسِيرُ يَا  
 اے سرپرست، اے کارساز، اے معاف کرنے والے، اے پناہ دینے والے، اے خبردار، اے تابندہ، اے نابود کرنے والے، اے محفوظ، اے پھیرنے والے، اے حرکت  
 قَدِيرُ يَا بَصِيرُ يَا شَكُورُ يَا بَرُّ يَا طَهْرُ يَا طَاهِرُ يَا قَاهِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا سَاتِرُ يَا مُحِيطُ يَا  
 دینے والے، اے بزرگ، اے قدرت والے، اے پناہ دینے والے، اے نیکوکار، اے پاک، اے پاکیزہ، اے غالب، اے عیاس، اے پنہاں، اے پردہ پوش، اے گھیرنے  
 مُقْتَدِرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا قَرِيْبُ يَا وَدُوْدُ يَا حَمِيْدُ يَا مَجِيْدُ يَا مُبْدِيْ يَا مُعِيْدُ  
 والے، اے اقتدار والے، اے نگہبان، اے جوڑنے والے، اے نزدیک تر، اے دوستی والے، اے پسندیدہ، اے بزرگوار، اے نماز کرنے والے، اے پلٹانے والے،  
 يَا شَهِيدُ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمَلُ يَا مُنْعَمُ يَا مُفْضِلُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا هَادِيْ يَا مُرْسِلُ يَا مُرْشِدُ  
 اے گواہ، اے احسان کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے عطا کرنے والے، اے پکڑنے والے، اے دینے والے، اے ہدایت دینے والے، اے بھیجنے والے اے  
 يَا مُسَدِّدُ يَا مُعْطِيْ يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا بَاقِيْ يَا وَاقِيْ يَا خَلَّاقُ يَا وَهَّابُ يَا تَوَّابُ يَا فَتَّاحُ  
 نیک بنانے والے، اے محکم کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے روکنے والے، اے ہٹانے والے، اے بلند کرنے والے، اے بقا والے، اے نگہدار، اے پیدا کرنے والے، اے بخشنے  
 يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَاحُ يَا مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ يَا نَفَّاعُ يَا رُوْفُ يَا عَطُوْفُ يَا كَافِيْ يَا شَافِيْ  
 والے، اے توجہ قبول کرنے والے، اے کھولنے والے، اے ہوا بھیجنے والے، اے راحت دینے والے، اے وہ جس کے ہاتھ میں ہر کلید ہے، اے نفع دینے والے، اے مہربان، اے  
 يَا مُعَافِيْ يَا مُكَافِيْ يَا وَفِيْ يَا مُهَيِّمُنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا أَحَدُ  
 نرمی والے، اے کفایت والے، اے شفا والے، اے عافیت والے، اے کفایت کرنے والے، اے وفا والے، اے نگہبان، اے زبردست، اے غلبے والے، اے بڑائی والے، اے  
 يَا صَمَدُ يَا نُورُ يَا مُدَبِّرُ يَا فَرْدُ يَا وَتَرُ يَا قُدُّوسُ يَا نَاصِرُ يَا مُؤْنِسُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا  
 سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے یکتا، اے بے نیاز، اے روشن، اے کام پورا کرنے والے، اے یگانہ، اے تنہا، اے پاکیزہ، اے مددگار، اے اُس والے، اے اٹھانے  
 عَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا بَادِيْ يَا مُتَعَالِيْ يَا مُصَوِّرُ يَا مُسَلِّمُ يَا مُتَحَبِّبُ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ  
 والے، اے ورثہ دار، اے دانائے حکم، اے لایزال، اے نماز کرنے والے، اے برتری والے، اے صورتگر، اے سلامتی دینے والے، اے دوستی کرنے والے، اے قائم، اے بیشکلی، اے  
 يَا جَوَادُ يَا بَارِيْ يَا سَارُّ يَا عَدْلُ يَا فَاصِلُ يَا دَيَّانُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا سَمِيْعُ يَا بَدِيْعُ  
 علم والے، اے حکمت والے، اے عطا والے، اے پیدا کرنے والے، اے نیکی والے، اے خوشی دینے والے، اے عدل والے، اے فیصلہ کرنے والے، اے جزا دینے والے، اے محبت کرنے والے

يَا حَفِيرِيَا مُعِينُ يَا نَاشِرِيَا غَافِرِيَا قَدِيمُ يَا مُسَهِّلُ يَا مُيَسِّرُ يَا مُمِيتُ يَا مُحْيِي يَا نَافِعُ  
 اے احسان کرنے والے اے سننے والے اے نقش سزا سے پناہ دینے والے، اے مددگار اے دوبارہ زندہ کرنے والے اے بخشنے والے اے سب سے پہلے اے اسان کرنے والے اے ہموار  
 يَا رَازِقُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُسَبِّبُ يَا مُغِيثُ يَا مُغْنِي يَا مُقْنِي يَا خَالِقُ يَا رَاصِدُ يَا وَاحِدُ يَا حَاضِرُ  
 کرنے والے اے مارنے والے اے زندہ کرنے والے، اے نفع دینے والے اے رزق دینے والے اے اختیار والے اے سب پیدا کرنے والے اے فریادرس اے ثروت دینے والے اے  
 يَا جَابِرُ يَا حَافِظُ يَا شَدِيدُ يَا غِيَاثُ يَا عَائِدُ يَا قَابِضُ يَا مَنْ عَلَا فَاسْتَعْلَى فَكَانَ بِالْمُنْظَرِ الْأَعْلَى،  
 نگہدار اے خلق کرنے والے اے نگہبان اے یگانہ اے موجود اے جوڑنے والے اے حفاظت کرنے والے اے سخت گیر اے دادرس اے لوٹانے والے اے گرفت والے اے وہ جو بلند ہو کر  
 يَا مَنْ قَرَّبَ فَدَنَا، وَبَعُدَ فَتَأَى، وَعَلِمَ السِّرَّ وَأَخْفَى يَا مَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ الْمَقَادِيرُ، وَيَا مَنْ  
 غائب ہوا تو بہت ہی اونچے مقام پر تھا، اے وہ جو قریب ہے تو پہلو میں ہے اور دور ہے تو پہنچ میں نہیں اور چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے، اے وہ جو صاحب تدبیر اور وہی انداز بکرنے والا ہے،  
 الْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ يَا مُرْسِلَ الرِّيَّاحِ، يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ،  
 اے وہ جس کیلئے مشکل کام معمولی اور آسان ہے، اے وہ جو کچھ بھی چاہے اس پر قادر ہے اے ہواؤں کے چلانے والے، اے صبح کی روشنی پھیلانے والے،  
 يَا بَاعِثَ الْأَرْوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَاحِ، يَا رَادًّا مَا قَدَفَاتِ، يَا نَاشِرَ الْأَمْوَاتِ، يَا جَامِعَ الشَّنَاتِ،  
 اے روحوں کو بھیجنے والے، اے عطا و سخاوت کے مالک، اے گمشدہ چیز کے پلٹانے والے، اے مردوں کے زندہ کرنے والے، اے بکھری چیزوں کے جمع کرنے والے،  
 يَا رَازِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَيَا فَاعِلَ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا  
 اے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دینے والے، اے جو چاہے % چاہے کرنے والے اور اے جلالت  
 حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَيًّا حِينَ لَا حَيَّ، يَا حَيُّ يَا مُحْيِي الْمَوْتَى، يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ  
 و بزرگی والے، اے زندہ، اے نگہبان، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ ہو، اے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اے وہ زندہ کہ  
 وَالْأَرْضِ يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ  
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ﷺ سانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اے معبود اور میرے سردار محمد ﷺ و ﷺ  
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
 محمد ﷺ پر درود بھیج محمد ﷺ و ﷺ پر رحمت فرما اور محمد ﷺ و ﷺ پر برکت نازل کر % تو نے ابراہیم ﷺ اور ﷺ پر درود بھیجا  
 حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَارْحَمُ ذُلِّي وَفَاقَتِي وَفَقْرِي وَانْفِرَادِي وَوَحْدَتِي وَخُضُوعِي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ  
 برکت نازل کی اور رحمت فرمائی بے شک تو تعریف والا شان والا ہے اور میری ذلت، فقر و فاقہ میری بے کسی، میری تنہائی پر رحم کر اور تیرے سامنے میں جو  
 اعْتِمَادِي عَلَيْكَ، وَتَضَرَّعِي إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَاضِعِ الدَّلِيلِ الْخَاشِعِ الْخَائِفِ الْمُسْتَفِيقِ  
 عاجزی کرتا ہوں اور رحم کر کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں اس شخص کی سی دعا جو عاجز، پست، بیچ،

الْبَائِسِ الْمَهِينِ الْحَقِيرِ الْجَائِعِ الْفَقِيرِ الْعَائِدِ الْمُسْتَجِيرِ الْمُقَرَّبِ بَدْنِهِ، الْمُسْتَغْفِرِ مِنْهُ، الْمُسْتَكِينِ  
 ڈرا ہوا، سہا ہوا، بے چارہ، کم ترین، ناچیز، بھوکا بھتاج، پناہ خواہ، طالب پناہ، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا، گناہ کی معافی مانگنے والا اور اپنے رب کے حضور  
 لِرَبِّهِ، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتْهُ تِقَاتُهُ وَرَفَضَتْهُ أَحِبَّتُهُ، وَعَظَمَتْ فَجِيعَتُهُ، دُعَاءَ حَرِيقِ حَزِينٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ  
 بے بس ہے ایسے شخص کی سی دعا جسے اعتباریوں نے چھوڑ دیا دوستوں نے دور ہٹا دیا اور اس کی مصیبت بھاری ہے میں دعا کرتا ہوں 100% کوئی دل  
 بَائِسٍ مُسْتَكِينٍ بِكَ مُسْتَجِيرٍ . اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكٌ وَأَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرِ  
 جلا، دکھی، کمزور، پست، بے چارہ، ذلیل اور تجھ سے طالب پناہ دعا کرتا ہے اے معبود! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو مالک ہے تو جو چاہے وہ  
 يَكُونُ وَأَنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ . وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ،  
 ہو جاتا ہے اور تو جو چاہے اس پر قادر ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس محترم مہینے اور پاک گھر، کعبہ مقدس، شہر مکہ، رکن و مقام اور عظمت والے مشہروں  
 وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَالْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ، وَبِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 کی حرمت کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد ﷺ (ان پر اور ان کی ﷺ پر سلام) کے واسطے سے سوالی ہوں اے وہ جس نے ﷺ کو شہادت کے بعد ایوب  
 اَلسَّلَامِ . يَا مَنْ وَهَبَ لِأَدَمَ شَيْئًا وَلَا بُرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، وَيَا مَنْ رَدَّ يُوْسُفَ عَلَى  
 کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے کے بعد ایوب کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے اے  
 يَعْقُوبَ، وَيَا مَنْ كَشَفَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ضُرَّ أَيُّوبَ، يَا رَادَّ مُوسَى عَلَى أُمِّهِ، وَزَايِدَ الْخَضِرِ فِي  
 وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹایا اے وہ جس نے ﷺ زماں کے بعد ایوب کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے  
 عِلْمِهِ، وَيَا مَنْ وَهَبَ لِداوُدَ سُلَيْمَانَ وَلِزَكَرِيَّا يَحْيَى، وَ لِمَرْيَمَ عِيسَى، يَا حَافِظَ بِنْتِ شَعِيبٍ،  
 علم میں اضافہ کرنے والے اے وہ جس نے داؤد کو سلیمان، زکریا کو یحییٰ اور مریم کو عیسیٰ عطا کیے اے دختر شعیب کی حفاظت کرنے والے اے  
 وَيَا كَافِلَ وَ لِدِ اُمِّ مُوسَى اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي  
 مادر موتی کے فرزند کے محافظ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمد ﷺ و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ میرے  
 كُلِّهَا، وَتَجِيرَنِي مِنْ عَذَابِكَ، وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَأَمَانَكَ وَإِحْسَانَكَ وَغُفْرَانَكَ وَ  
 سارے گناہ بخش دے مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی رضا مندی، اپنی پناہ، اپنا احسان، اپنی بخشش  
 جِنَانِكَ . وَأَسْأَلُكَ اَنْ تَفْكَ عَنِّي كُلَّ حَلْقَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي، وَتَفْتَحَ لِي كُلَّ بَابٍ،  
 اور اپنی بہشت واجب کر دے اور میں سوال کرتا ہوں کہ میرے اور مجھے ایذا دینے والے کے درمیان جتنی کڑیاں ہیں وہ کھول دے  
 وَتُلِينَ لِي كُلَّ صَعْبٍ، وَتُسَهِّلَ لِي كُلَّ عَسِيرٍ، وَتُخْرِسَ عَنِّي كُلَّ نَاطِقٍ بِشَرٍّ، وَتَكْفَ عَنِّي  
 ہر دروازہ میرے لئے کھول دے ہر سختی کو نرمی میں بدل دے ہر مشکل ﷺ سان کر دے میرے خلاف ہر بدگوئی کرنے والے

كُلِّ بَاغٍ، وَتَكْبِتَ عَنِّي كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَحَاسِدٍ، وَتَمْنَعَنَّ مِنِّي كُلَّ ظَالِمٍ، وَتَكْفِينِي كُلَّ عَائِقٍ  
 کو گونگا کر دے ہر سرکش کو مجھ سے دور کر دے اور میرے ہر دشمن و حاسد کو ذلیل کر دے ہر ظالم کو  
 يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَاجَتِي وَيُحَاوِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعَتِكَ وَيُثَبِّطَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ.  
 مجھ سے روکے رکھ ہر اس مانع سے میری کفایت فرما جو میرے جو میری حاجت کے درمیان حائل ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے تیری  
 يَا مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ الْمُتَمَرِّدِينَ، وَقَهَرَ عَتَاةَ الشَّيَاطِينِ وَأَذَلَّ رِقَابَ الْمُتَجَبِّرِينَ وَرَدَّ كَيْدَ  
 فرمانبرداری سے باز رکھے اور تیری عبادت سے دور کرے اے وہ جس نے سرکش جنات کو گلام دی اور نافرمان شیطانوں کی سرکوبی کی اور ظالموں کی گردنیں  
 الْمُتَسَلِّطِينَ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ، وَتَسْهِيْلِكَ لِمَا تَشَاءُ  
 q دیں اور کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے آزادی بخشی میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس کہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے اور جو چاہے،  
 كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ قِضَاءَ حَاجَتِي فِيَمَا تَشَاءُ .

% چاہے تیرے لئے ۱۱ سان ہے کہ تو میری حاجت روائی، جس چیز میں چاہے فرار دے۔

اسکے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کرے اور اپنے دونوں رخسار خاک پر رکھ کر یہ کہے:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، فَارْحَمْ ذُلِّي وَفَاقْبِنِي وَاجْتِهَادِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْكَتِي  
 اے معبود! میں تجھی کو سجدہ کرتا ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں پس میری ذلت، اوج اور میری کوشش، میری زاری و بے چارگی اور اپنی بارگاہ میں  
 وَفَقْرِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ .

میری محتاجی پر رحم فرمائے پروردگار۔

اس دوران یہ کوشش کرے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اگرچہ وہ مکھی کے پر جتنے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ یہ

قبولیت دعا کی نشانی ہے۔